



LIDA Stories

lidadstories.net

ایسه کورنی لهبارنی کاشی و ههوا / A snakke

om været

✎ Espen Stranger-Johannessen

🔗 Ognjen Drageljević

📄 Dier Piran (ckb), Espen Stranger-


Johannessen (nn)



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>


ایسه کورنی لهبارنی کاشی و ههوا

A snakke om været



✎ Espen Stranger-Johannessen
🔗 Ognjen Drageljević
📄 Dier Piran
|| 2

🗣️ کورنی / nynorsk (nn)



«رۆژەگن دەست دەکەن بە سەرد بوون. پلە ی گەرمی
چەندە؟»

...

«Det byrjar å bli kaldt no om dagen. Kor
mange grader er det?»



«هیوادارم وانە بێ. بە راستی حەزم لە کەشی خراپ نیە،
بەڵایبەتی گەوارە و هەورە برووسکە. دەترسم کە
بروسکە کە لە من بدات.»

...

«Eg håper ikkje det. Eg liker verkeleg
ikkje uvêr, spesielt tore og lyn. Eg er
redd lynet skal treffe meg.»

«Sjå på dei mørke skyene. I morgon blir det regn. Det skal blåse mykje øg. kanskje det blir storm.»

...

”... اوایته بئیته زرتی. ”


”سهتری ته وه ره رهه زنه بکه. بختی خرابی دختی.



«Det er ni grader. Det er framleis haust, men snart kjem vinteren.»

...

”... اوایته د بئیته زرتی. ”





«من چوه پروانی به ھرم، به لام ھوین لام په سہ ندره،
کتیک گهرم و خوشه.»

...

«Eg gler meg til våren, men eg
føretrekker sommaren, når det er godt
og varmt.»



«من گوئی لاده مه سهره. نه وه ډران و ډیبه که یه که من
حه زم لی نیه.»

...

«Eg har ikkje noko imot kulda. Det er
regnet og vinden eg ikkje liker.»